



”جب تم قضاہ کی حاجت کے لیے جاؤ، تو پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے نہ تو قبلہ کی طرف رخ کرو اور نہ پشت ہلکے یا تو مشرق کی طرف منہ کیا کرو یا مغرب کی طرف“

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم قضاہ کی حاجت کے لیے جاؤ، تو پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے نہ تو قبلہ کی طرف رخ کرو اور نہ پشت ہلکے یا تو مشرق کی طرف منہ کیا کرو یا مغرب کی طرف“ ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شام آئے، تو ہم نے دیکھا کہ بیت الخلا کے رخ بنائے گئے تھے چنانچہ ہم (جب قضاہ کی حاجت کے لیے جاتے تو) کعبہ کی سمت سے ہٹ کر بیٹھتے اور اللہ عز و جل سے استغفار کرتے

[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاہ کی حاجت یعنی پیشاب اور پاخانہ کا ارادہ کرنے والے کو قبلہ اور کعبہ کی جانب منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنے سے منع کیا ہے اسے مشرق یا مغرب کی جانب رخ کر کے بیٹھنا چاہیے، اگر اس کا قبلہ اہل مدینہ کا قبلہ ہو پھر ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ جب وہ شام پہنچے تو دیکھا کہ وہاں قضاہ کی حاجت کے لیے بنے ہوئے بیت الخلا کے رخ بنائے ہوئے ہیں اس لیے وہ اپنے جسم کو کعبہ کے رخ سے موڑ کر بیٹھتے اور قضاہ کی حاجت کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کر لیا کرتے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3078>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

